

# 13th BRICS Summit

September 06, 2021

## تیرہویں (13) برکس چوٹی میٹنگ

06 ستمبر، 2021

1- 2021 میں برکس کی صدارت کے حصے کے طور پر وزیراعظم جناب نریندر مودی ورچوئل فارمیٹ میں 9 ستمبر 2021 کو تیرہویں برکس چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں برازیل کے صدر عالی جناب جئیر بلوسو نارو، روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن، چین کے صدر عزت مآب شی جن پنگ اور جنوبی افریقہ کے صدر جناب سائرل راما فوسا شرکت کریں گے۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر جناب اجیت دول، نئے ترقیاتی بینک کے صدر جناب مارکوس ٹرائجو، برکس بزنس کونسل کے پروٹیمپور صدر جناب اونکار کنور اور برکس وومینس بزنس الائنس کی عبوری صدر نشین ڈاکٹر سنگیتا ریڈی، چوٹی میٹنگ کے دوران لیڈروں کو ان کے متعلقہ ٹریکس کے تحت اس سال کے نتائج پر رپورٹس پیش کریں گی۔

2- اس چوٹی میٹنگ کا موضوع ہے: “BRICS@15: Intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus (برکس @ 15 تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے لئے انٹرا برکس تعاون)۔ بھارت نے اپنی صدارت کے لئے چار ترجیحی شعبوں کا ذکر کیا ہے۔ ان شعبوں میں کثیر الجہتی نظام کی اصلاح، انسداد دہشت گردی، ایس ڈی جی کے حصول کے لئے ڈجیٹل اور ٹکنالوجیکل وسائل کا استعمال اور عوام سے عوام کے مابین تبادلے کو بڑھانے جیسے شعبے شامل ہیں۔ ان شعبوں کے علاوہ لیڈران کووڈ-19 عالمی وبا کے اثرات پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے اور دیگر موجودہ عالمی اور علاقائی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔

3- یہ دوسرا موقع ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی برکس چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے 2016 میں گوا میں چوٹی میٹنگ کی صدارت کی تھی۔ ہندوستان کی زیر صدارت اس سال کی برکس، برکس کی پندرہویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے جیسا کہ سمٹ کے موضوع سے ظاہر ہوتا ہے۔

نئی دہلی

06 ستمبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.